


باکس 1: اسٹیٹ بینک کا نظامیاتی خطرے کا سروے پندرہویں لہر (جنوری 2025ء)

اسٹیٹ بینک نے اپنے ششماہی نظامیاتی خطرے کے سروے (ایس آر ایس) کی پندرہویں لہر جنوری 2023ء میں مکمل کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مارکیٹ کے شرکاء سے مالی نظام کو درپیش مختلف خطرات کے حوالے سے تاثرات معلوم کیے جائیں اور مالی نظام کے استحکام پر ان کے اعتماد کو جانچا جاسکے۔ سروے میں حال اور مستقبل (اگلے چھ ماہ کے دوران) کے بارے میں خطرے کے پانچ وسیع زمروں یعنی عالمی، کئی معاشی، مالی منڈیاں، ادارہ جاتی اور عمومی خطرے پر شرکاء کے تاثرات معلوم کیے گئے۔

ایس آر ایس کی موجودہ لہر کے جواب دہندگان میں مالی اداروں کے سینئر عہدیدار، مالی جرٹلسٹ، اور دیگر شامل تھے۔ موجودہ لہر میں شرکاء کی مجموعی تعداد 119 تھی جبکہ جولائی 2024ء میں یہ 135 تھے، نیز جوابات کی شرح 54 فیصد تھی۔



نتائج کا خلاصہ:

- 1- فی الوقت مجموعی طور پر جواب دہندگان ”عمومی خطرے“، ”کئی معاشی“ اور ”عالمی“ زمروں کو اہم ترین کا درجہ دیتے ہیں۔ (شکل الف)۔ ”عمومی خطرے“ کے حوالے سے تاثرات کی تشکیل ”پاکستان کے جغرافیائی سیاسی خطرات“ اور ”دہشت گردی“ کے باعث ہوئی۔ یہ تاثرات اگلے چھ ماہ تک برقرار رہے گا کیونکہ تمام پانچ اہم خطرے کے زمروں میں خطرے کے بارے میں تاثرات پست ہیں (شکل ب)۔
- 2- موجودہ اہم خطرات کے لحاظ سے، سب سے اہم پانچ خطرات (نزولی ترتیب میں) یہ ہیں: ”سائبر سیکیورٹی“، ”سیاسی غیر یقینی صورت حال“، ”پاکستان کے جغرافیائی سیاسی خطرات“، ”بڑھتا ہوا مالی خسارہ“ اور ”پست ملکی آمدنی“۔ اگلے چھ ماہ کے دوران، ان زمروں کے بارے میں خطرے کے تاثرات عام طور پر کم ہونے کی توقع ہے۔ (شکل ج)۔
- 3- جواب دہندگان بینکاری نظام کے استحکام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پورے مالی شعبے پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے رہے۔ جواب دہندگان کی بڑی تعداد نے مالی نظام کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضابطہ کار (اسٹیٹ بینک) کی صلاحیت پر بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ (شکل د)۔
- 4- گزشتہ تین لہروں (تیرہویں، چودھویں، اور پندرہویں) کے نتائج کے موازنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطرے کی مختلف جہتوں کے حوالے سے جواب دہندگان کا خطرے کا تاثر بڑھ گیا ہے۔ تاہم شرح سود، توانائی کے بحران اور توازن ادائیگی میں خطرے کے تاثر میں نمایاں بہتری دکھائی دی۔ (شکل ہ)۔



شکل د: مالی استحکام پر اعتماد

Stability of Pakistan's financial system
Stability of Pakistan's banking system
Ability of regulators to ensure financial stability



شکل ہ: اسٹیٹ بینک کے نظامیاتی خطرے کے سرے کے نتائج کا موازنہ (تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں لہر)

Wave				Wave			
15th (Jan-25)	14th (Jul-24)	13th (Jan-24)		15th (Jan-25)	14th (Jul-24)	13th (Jan-24)	
Percent (Average)				Percent (Average)			
Risk Categories				Risk Categories			
2.73	2.63	2.63	Regulatory	2.49	2.48	2.46	Slowdown in global growth
2.86	2.85	2.88	Legal	2.95	2.82	2.78	Sovereign default
2.52	2.39	2.20	Asset quality deterioration	2.20	2.06	1.97	Lack of funding from abroad
2.66	2.46	2.45	Shortfall in capital requirement	2.19	2.02	1.89	Volatility in commodity prices
2.78	2.68	2.64	Access to funding (deposit mobilization & borrowings)	2.22	2.01	2.00	Slowdown in domestic growth
2.86	2.81	2.78	Excessive private sector credit	2.34	2.04	1.82	Increase in domestic inflation
2.73	2.78	2.74	Concentration risk in PSC	2.15	1.99	1.82	Widening fiscal deficit
2.90	3.06	3.07	Concentration risk in mutual fund	2.30	1.98	1.89	Deterioration of BoP
2.64	2.63	2.70	Operational risk	2.61	2.32	2.26	Sovereign rating downgrade
2.12	2.27	2.21	Cyber security risk	2.38	2.30	2.27	Slowdown in corporate sector growth
2.76	2.68	2.72	Disruption in financial market	2.68	2.46	2.52	Slowdown in infrastructure development
2.28	2.29	2.34	Terrorism	2.18	1.93	1.82	Deterioration in household savings
2.21	2.21	2.08	Geopolitical risks for Pakistan	2.89	2.71	2.80	Volatility in real estate prices
2.39	2.11	2.18	Natural disasters/ Increasing threat of climate change	2.28	1.87	1.89	Energy crisis
2.40	2.21	2.24	Social unrest	2.07	1.98	1.84	Political uncertainty
				2.25	2.00	1.74	Foreign exchange rate
				2.82	2.63	2.61	Equity price
				2.75	2.32	2.13	Interest rate
				2.68	2.47	2.34	Liquidity

